

اونٹاریو میں روزگار کے معیارات

روزگار کے معیارات کا قانون، 2000، ای ایس اے، (Employment Standards Act, 2000, ESA) ملازمین کا تحفظ کرتا ہے اور اونٹاریو میں بیشتر جائے کار کے لیے کم سے کم معیارات کا تعین کرتا ہے۔ اپنے ESA حقوق کا استعمال کرنے پر ملازمین کو کسی بھی طرح کی سزا دینا آجروں کے لیے ممنوع ہے۔

آپ کو کیا جاننے کی ضرورت ہے

روزگار کے دیگر حقوق، استثناء اور خصوصی اصول

ایسے بھی دیگر حقوق، استثناء اور خصوصی اصول موجود ہیں جو اس پوسٹر پر درج نہیں ہیں، جس میں قبل از وقت سبکدوشی کا معاوضہ اور عارضی امدادی ایجنسی کے اسائنمنٹ والے ملازمین کے لیے خصوصی اصول شامل ہیں۔

آپ اور آپ کے جائے کار پر اثر ڈال سکنے والی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں:

[Ontario.ca/labournews](https://www.ontario.ca/labournews)

چھٹی کا وقت اور تنخواہ

ملازمین کو ملنے والی چھٹی کے وقت کی مقدار اور تنخواہ کے ضمن میں اصول موجود ہیں۔ بیشتر ملازمین ہر 12 مہینے کے کام کے بعد چھٹی کا وقت لے سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں: [Ontario.ca/vacation](https://www.ontario.ca/vacation)

غیر حاضری کی چھٹیاں

اونٹاریو میں ملازمت کے تحفظ کے ساتھ کئی چھٹیاں ہیں۔ مثالوں میں بیماری کی چھٹی، حمل کی چھٹی، ولدیت کی چھٹی اور کنبہ جاتی نگران کی چھٹی شامل ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں: [Ontario.ca/ESAGuide](https://www.ontario.ca/ESAGuide)

کم از کم اجرت

بیشتر ملازمین کم از کم اجرت ادا کیے جانے کے حقدار ہیں۔ موجودہ شرحوں کے لیے ملاحظہ کریں: [Ontario.ca/minimumwage](https://www.ontario.ca/minimumwage)

سرکاری تعطیلات

اونٹاریو میں ہر سال کئی سرکاری تعطیلات ہوتی ہیں۔ بیشتر ملازمین ان دنوں میں کام سے چھٹی کرنے اور سرکاری تعطیل کی تنخواہ پانے کے حقدار ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں: [Ontario.ca/publicolidays](https://www.ontario.ca/publicolidays)

کام کے گھنٹے اور اوور ٹائم

کام کے گھنٹوں پر یومیہ اور ہفتہ وار حدود ہیں۔ کھانے کے وقفوں، آرام کے وقفوں اور اوور ٹائم کے سلسلے میں بھی اصول متعین ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں: [Ontario.ca/hoursofwork](https://www.ontario.ca/hoursofwork) اور [Ontario.ca/overtime](https://www.ontario.ca/overtime)

معطلی کا نوٹس اور تنخواہ

بیشتر معاملوں میں، ملازمت ختم کرتے وقت آجروں کے لیے ملازمین کو معطلی کا پیشگی تحریری نوٹس دینا/یا نوٹس کے بجائے معطلی کی تنخواہ دینا ضروری ہے۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں: [Ontario.ca/terminationofemployment](https://www.ontario.ca/terminationofemployment)

اپنے حقوق کے بارے میں یہاں پر مزید جانیں:

[Ontario.ca/employmentstandards](https://www.ontario.ca/employmentstandards)

TTY 1-866-567-8893 یا 1-800-531-5551

[@ONTatwork](https://twitter.com/ONTatwork) [@OntarioAtWork](https://facebook.com/OntarioAtWork) [@Ontarioatwork](https://instagram.com/Ontarioatwork)